

# ہمت گرائف ویمنز ایڈ (عورتوں کی مدد)



اقلیتی نسلی کمیونٹی کی اُن عورتوں، بچوں اور نوجوانوں کو ثقافتی طور پر حساس اور خصوصی خدمات مہیا کرنا جو گھریلو زیادتی، جبری شادی اور عزت کی بنیاد پر تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔

فلٹ 0/1، 24 ولو بینک سٹریٹ، گلاسگو، G3 6LZ

Flat 0/1, 24 Willowbank Street, Glasgow G3 6LZ

ٹیلیفون: 0141 353 0859 فیکس: 0141 564 1316

ای میل: [womensaid@hematgryffe.org.uk](mailto:womensaid@hematgryffe.org.uk) ویب: [www.hematgryffe.org.uk](http://www.hematgryffe.org.uk)

**ہمت گرائف ویمنز ایڈ** ایک رضاکارانہ تنظیم ہے جو بالخصوص ایشیئن، بلیک، اور اقلیتی نسلی کمیونٹی کی ان عورتوں، بچوں اور نوجوانوں کو مفت اور رازدارانہ خدمات مہیا کرتی ہے جو گھریلو زیادتی، جبری شادی اور عزت کی بنیاد پر تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم گھلے دروازے (اوپن ڈور) کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں اور کسی عورت کو مدد دینے سے انکار نہیں کرتے۔

### بچوں اور نوجوانوں کی خدمات

- 16 کی عمر سے نوجوان بچیوں کو ریفیوج میں رہائش دینا
- ریفیوج چھوڑنے اور مستقل رہائش میں آباد ہونے والے بچوں اور نوجوانوں کو فالو آن سپورٹ فراہم کرنا
- گھریلو زیادتی، جبری شادی اور ثقافتی مسائل سے متاثرہ بچوں اور نوجوانوں کو باہر ملنا اور بحران میں سپورٹ کرنا

ہماری سپورٹ ورکرز درج ذیل کام کر سکتی ہیں:

- آپ کے محفوظ رہنے کے حق کے بارے میں آپ کو بتائیں
- آپ کو تنہا مل کر سپورٹ کریں
- آپ کو گروپ میں مل کر سپورٹ کریں
- دوسرے لوگوں سے بات کرنے میں آپ کی مدد کریں
- سکول میں آپ کی مدد کریں
- آپ کی بات سنیں
- مشکل فیصلوں میں آپ کی مدد کریں
- لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں
- محفوظ رہنے میں آپ کی مدد کریں

### عورتوں کی خدمات

- عورتوں اور بچوں کو پناہ گھر (ریفیوج) میں رہائش دینا
- مستقل رہائش میں منتقل ہونے والی عورتوں کو فالو آن سپورٹ فراہم کرنا
- وسیع تر کمیونٹی میں رہنے والی گھریلو زیادتی سے متاثرہ عورتوں کو باہر ملنا اور بحران میں سپورٹ کرنا
- ہم وسیع سلسلے کے مسائل پر سپورٹ فراہم کرتے ہیں بشمول:

- جبری شادی
- ہاؤسنگ
- ویلفیئر کے حقوق
- روزگار
- وکالت
- امیگریشن — منگیتر ویزہ والوں کے لئے
- قانونی معاملات
- ایک ایک کی بات سننا
- عورتوں کے گروپ
- دو زبانیں جاننے والا سٹاف دستیاب ہے

